

**Jubilee Life Insurance Company Limited-Window Takaful Operations**



# **JUBILEE AALISHAAN SEHAT TAKAFUL PLAN**

Jubilee Life Insurance Company - Window Takaful Operations with its distribution partner Dubai Islamic Bank Limited brings to you a unit linked endowment plan 'Jubilee Aalishaan Sehat Takaful Plan' - A plan which helps you achieve your goals, be it Savings or Protection in the grandest way possible. A plan which helps you achieve your dreams like no other Takaful Plan can.

The high point of Jubilee Aalishaan Sehat Takaful Plan is its high first year allocation that accelerates your investments so that you reach your targeted savings much quicker than any other comparable plan in the market. Designed especially for High Achievers who demand something extra from life, Jubilee Aalishaan Sehat Takaful Plan offers Protection and Extra Savings to match your lifestyle. A high growth plan with desired protection for your loved ones when they need it the most. So, If you are looking for a Family Takaful Plan structured to give you smart returns along with a safety net in a Shariah Compliant manner - Jubilee Aalishaan Sehat Takaful Plan is a perfect choice.

### Key Benefits

- Select any of the additional optional benefits to enhance your protection.
- Top-up your investments with extra savings that you may have.
- An option to cope with inflation by increasing your contribution.
- Long term financial security for you and your family.
- **Participant can cancel the membership within 14 days from the receipt of the membership documents.**

### What is Takaful?

“Takaful” is an Arabic word which means “joint guarantee”. It is a community-pooling system, based on the principles of brotherhood and mutual cooperation, where participants contribute in a common fund to help those who need it the most.

### The system runs on these principles:

- 1) Participants pool a small amount called “Contribution” into a Waqf Fund, on the basis of “Tabarru”, to protect themselves and each other against specified risks.
- 2) The Window Takaful Operator manages a Waqf Fund, called Individual Family Takaful Participants’ Fund (IFTPF), with due diligence and prudence in the capacity of “Wakeel”.
- 3) The claims are paid from the IFTPF.

- 4) Surplus amount, if any, may be distributed among the participants as per the advice of Shariah Advisor and Appointed Actuary of the Company

## What is a Family Takaful Plan?

A Family Takaful Plan is an arrangement which rests on key Shariah principles of mutual cooperation, solidarity and wellbeing of a community.

Under a Takaful arrangement, individuals come together and contribute towards the common objective of protecting each other against financial losses by sharing the risk on the basis of mutual assistance.

### Jubilee Aalishaan Sehat Takaful Plan empowers you to select the best for yourself and your family

Select from a range of Shariah Compliant investment strategies that not only provides peace of mind, but also match your financial objectives. Your contributions are invested in your choice of Investment strategies from day ONE. This means that your cash value start to build from your very first contribution. If you have a specific need for cash in the future, Jubilee Aalishaan Sehat Takaful Plan can be targeted towards meeting that need.

The added advantage of our Jubilee Aalishaan Sehat Takaful Plan is that it protects your family financially against unforeseen circumstances as well!

The Sum Covered under the plan ensures that your family has a secure financial future. God forbid if you die, the plan benefits are paid from the IFTPF to your dependents. This ensures that your family will have the finances at the time when they need it most to live comfortably, receive quality healthcare and receive good education.



## What are the benefits of this plan?

In addition to the savings and protection aspects of Jubilee Aalishaan Sehat Takaful Plan, there are various benefits that you may take advantage of;

- **Maturity Benefit:** Upon maturity of this membership, the participant will receive an amount accumulated in his respective Participants Investment Account (PIA). To understand this better, you may consult our distributions staff. They would brief you about the same with further clarity.
- **Death Benefit:** This plan offers you an ability to select protection needs. Protection amount can be between 5 to 25 times your Annual Basic Contribution, depending upon underwriting outcomes. If the life covered expires during the term of the plan, the nominee will get the selected protection amount or accumulated cash value (whichever is higher).
- **Supplementary Optional Takaful Benefits:** A participant in this plan can add the following Supplementary Optional Takaful Benefits in order to enhance the protection aspect of this plan:
  - **Permanent and Total Disability Supplementary Takaful Benefit:** This Supplementary Takaful Benefit advances the benefit covered under basic plan in case of permanent and total disability.
  - **Waiver of Contribution Supplementary Takaful Benefit:** Your contributions, from the next contribution due date, will be paid for, should you suffer an illness and disability and are not able to follow your own occupation or any other occupation suited by your knowledge, training or education qualification for at least 6 months.
  - **Accidental Death Supplementary Takaful Benefit:** An amount in addition to the basic plan death benefit will be paid to the beneficiary or beneficiaries chosen by you in case of accidental death.
  - **Accidental Death or Dismemberment Supplementary Takaful Benefit:** This Supplementary Takaful Benefit pays out in case of death or dismemberment due to accident, paying out complete or partial benefits depending on the severity of the dismemberment.
  - **Critical Illness Supplementary Takaful Benefit:** This Supplementary Takaful Benefit advances the death benefit payable on basic plan in case of diagnosis of one of eighteen specified Critical Illnesses.
  - **Family Income Benefit Supplementary Takaful Benefit:** Provides you with the option of Family Income Benefit. Which insures that in future your family will be able to maintain a good standard of living through a secure income provided to your family in case of sad demise of the life covered.

- **Jubilee Medipal Supplementary Takaful benefit:** This supplementary Takaful benefit provides financial protection in case of illness or accident that leads to hospitalization with coverage up to the annual limit of PKR 250,000 for in-patient expenses incurred by the life covered. Furthermore, the life covered will also have an option to select MediPal for his/her spouse.

The participant will have the advantage of obtaining quality medical care services coupled with a Private Room at any of the approved hospitals without having to pay anything.

For further details, please refer to the separate leaflet of Jubilee MediPal Supplementary Takaful Benefit.

### How are the funds accumulated in this Plan?

Any contributions made by the Participants of this plan will be invested in one or both of the following Shariah Compliant Funds of:

- **Family Takaful Income Fund:** Family Takaful Income Fund focuses on providing sustainable returns with low risk over medium to long-term by investing in Shari'ah Compliant Government securities and Islamic bank placements. It is classified as fund having low risk profile.
- **Family Takaful Balanced Fund:** Family Takaful Balanced Fund focuses on providing competitive returns on investments with a balanced portfolio of wide range of Shari'ah Compliant Instruments. It is classified as fund having medium risk profile.

Your Contributions, by default, will be allocated to **Family Takaful Income Fund** the of the Jubilee Life Window Takaful Operations which offers sustainable returns with minimum risk, over medium to long-term, by investing in a diversified portfolio of securities consisting of different Shariah compliant money market and debt instruments and does not have any investment in equity securities.

However, you have the option to invest in any fund of your choice other than the default investment fund by signing the declaration form.

These funds are managed by expert investment managers under the guidance of the Shari'ah Advisor to ensure optimized returns with manageable risk exposure under strict Shari'ah Compliance.

Your contributions will earn investment returns during the term of the plan. At the end of the chosen term, you will receive your accumulated cash value as a lump sum.

**Note:** The past performance of these funds is not necessarily indicative of the future performance of any of these funds.

Unit prices of Jubilee Life Family Takaful's Fund(s) are published in all leading dailies regularly and on Jubilee Life Family Takaful website: [www.jubileefamilytakaful.com](http://www.jubileefamilytakaful.com)

## What are Shariah Compliant Funds?

Shariah Compliant Funds comprise of investments in Shariah compliant instruments such as Islamic Equities, Sukook, Islamic Term Certificates, Islamic Mutual Funds, placement with Islamic Banking Institutions (IBIs) etc. These funds do not contain in any way the element of Riba (Interest), Qimar (Gambling) and Gharar (Uncertainty).

## Our Shariah Advisor

All business operations and products of the Window Takaful Operations are approved and supervised by its independent Shariah Advisor, who is an eminent and renowned Shariah Scholar.

An in-house Shariah Compliance Department supervises the implementation of promulgated Shariah Rulings & Guidelines pertaining to different operational and investment related issues.

An external Shariah Audit further certifies Shariah Compliance of the company.

## How are the Contributions allocated in this Plan?

Membership Year	Allocation Percentage (%)
Year 1	60%
Year 2	95%
Year 3 and onwards	100%

## Will there be any Bonus Allocation in this plan?

Under Jubilee Aalishaan Sehat Takaful Plan, from the 5th year & onwards Jubilee Life Insurance - Window Takaful Operations will give its customers a Bonus allocation to the unit account. This will be provided according to the table below:

Membership Year	*Bonus Allocation Percentage
Year 5	3%
Year 7	7%
Year 10	15%
Year 15	20%
Year 20	25%
Year 25	30%

You will enjoy bonus allocations in excess of 100%, in membership years 5, 7, 10, 15, 20, 25 as shown in the table above.

Top- Up Contributions Allocation: 100%

\*Bonus Allocations are subject to terms & conditions

### What is the minimum Basic Contribution?

The minimum Basic Plan Contribution that can be made is Rs. 250,000 annually, Rs. 125,000 semi - annually, PKR 62,500 quarterly & PKR 20,834 monthly.

### What are Top-Up Contributions?

This plan is a long term savings & protection plan where you have to make pre-defined regular contributions. However, you can top up your regular contribution payments as and when you require. These will be allocated as 100% to the PIA to boost your cash value.

### What is the frequency of the Contributions?

Jubilee Aalishaan Sehat Takaful Plan offers you the flexibility to choose your mode of contributions according to your ease of payment i.e. Annually, Semi-Annually, Quarterly or Monthly.

### Combating Inflation:

Your Sum Covered and Contribution increases automatically every year, up to the limit specified by the Window Takaful Operator without any medical investigations. You, of course, retain the right to decline this increase and continue your plan on same terms and conditions as before or choose a lower increase according to your needs.

### What is the Eligibility Criteria to avail this Plan?

Description	Minimum	Maximum
Age at enrolment	18 years	65 years
Term of Plan	10 years	25 years*

\* Subject to maturity age of 75 years

### Will the funds be professionally managed?

Yes, your contributions will be allocated into Funds, which are managed by expert investment managers to ensure optimized returns, while ensuring fully compliance with Shariah principles under the supervision of Shariah Advisor.

## Can I withdraw funds from this Plan when I need them?

Under Jubilee Aalishaan Sehat Takaful Plan, you have the freedom to partially withdraw or completely surrender your investments.

### Partial Withdrawal

If you need to withdraw cash to meet emergency needs but do not want to surrender the membership, you can withdraw any amount subject to a minimum amount withdrawn, provided that the residual cash value in your unit account is not less than PKR 250,000. Despite partial withdrawals, you will continue to receive the Takaful cover although your sum covered will be reduced by the amount of partial withdrawals to maintain the Sum at Risk.

### Full Surrender

You have the option to surrender your plan any time. At the time of surrender, you will be paid in full the cash value of your fund. However, surrender in early membership years may result in lower cash value.

## What pricing methodology does Jubilee Life - WTO follows?

Jubilee Life - WTO follows forward unit pricing methodology. It is worked out by dividing the total value of investments in the fund by the number of active units in the fund as of pricing date.

## What fees are applicable to this Plan?

The following fees will be applicable to the Jubilee Aalishaan Sehat Takaful Plan:

Wakalatul Istismaar Fees comprising of*:	
Initial Charge:	5% bid-offer spread
Allocation Fee:	Amount of Regular Basic Contributions not allocated to the PIA
Investment Management Fee:	1.5% p.a. of Fund Value deducted on the date of Valuation of the fund
Fund Switching Fees:	PKR 500 per Switch if more than four (4) are availed in a Membership year
Administration Charge*:	PKR 245 per month.
Takaful Contribution:	<p>Takaful contribution shall be deducted as filed with the SECP from PIA for the benefit covered to be paid from IFTPF.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 40% of each Takaful Contribution for Benefits covered under PMD</li><li>- 40% of each Takaful Contribution for Benefit Covered under the Supplementary Takaful Benefit documents.</li></ul>
Wakalah Fees from IFTPF(PTF)*:	Is deducted as Wakalah Fees from IFTPF



Mudarib Share*: Contribution from Investment Income	The Window Takaful Operator (Mudarib) will be entitled to 40% of the Investment Income earned by IFTPF (Rabb ul Maal) on the basis of Mudarabah.
Contribution Allocation Charge	Contribution allocation charge for the year is calculated as hundred percent of the contribution received less percentage of the allocated contribution for the year.

\*Reviewable by the Windows Takaful Operator.

## Surplus Sharing

Takaful not only provides sharing of risks, but also offers Surplus sharing, a unique feature provided to the participants. By contributing Tabarru (Donation), the participant is entitled to possible Surplus sharing from the Waqf Fund. If at the end of the stated period, any excess amount is left after paying off claims and other costs, it is utilized for the following purposes:

- 1) A portion of the fund would be set aside to strengthen the Waqf Fund for future excessive claims;
- 2) Remaining surplus may be distributed among the participants, on a fair and equitable basis.

In any case the Surplus would not belong to the Window Takaful Operator and would always be used for the benefit of the Pool/or the public at large.

## Free Look Period:

Jubilee Aalishaan Sehat Takaful Plan provides a free look period of 14 days during which you can review your plan terms and conditions and cancel the Membership if needed. Contribution will be refunded if the written request for cancellation is received within 14 days from the receipt of Membership documents. Expenses incurred on medical or financial examination(s), if any, and any Takaful contributions paid by the member into the IFTPF, may be deducted.

## Disclaimers:

- This product is underwritten by Jubilee Life Window Takaful Operations. It is not guaranteed or covered by DIB or its affiliates and is not a product of the Bank.
- This is a family takaful product which has two distinct elements i.e., family takaful Protection and Investment. The investment component is linked to the performance of underlying assets under unit linked fund(s).
- The past performance of the funds offered by the Window Takaful Operator is not necessarily a guide to future performance. Any forecast made is not necessarily

indicative of future or likely performance of the funds and the Window Takaful Operator will not incur any liability for the same.

- A personalized illustration of benefits will be provided to you by a sales representative. Please refer to the notes in the illustration for detailed understanding of the various terms and conditions.
- Please refer to the Participant Membership Document for detailed understanding of the various terms and conditions.
- Jubilee Life Window Takaful Operations is the underwriter and provider of this Takaful Cover on behalf of the IFTPF and shall be responsible for membership servicing and lodgement, processing, & settlement of claims to the covered customer(s) or beneficiary (ies).
- Supplementary Takaful Benefits may be available if the person covered is aged 55 years or less (nearest birthday at the time of issuance(except Jubilee Medipel)).
- DIB is acting as a distributor on behalf of Jubilee Life Window Takaful Operations and is not and shall not be held responsible in any manner whatsoever to any person, including but not limited to the covered customer(s), beneficiary(ies), or any third party.
- The investment risk shall be borne by the participant and actual maturity or surrender values may be lower or higher than the projected figures. A declaration must be signed by the participant if he/she opts to invest in a fund other than the default fund.
- Please refer to company web site for target asset mix of the underlying fund.  
(<https://jubileefamilytakaful.com/jubilee-family-takaful-funds/fund-manager-reports/>)

## Contact Details:

### JUBILEE LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

Window Takaful Operations  
74/1-A, Lalazar, M.T. Khan Road,  
Karachi-74000, Pakistan.

Phone: (021) 32120201, 35205094

Fax: (021) 35610959

UAN: (021) 111-111-554

SMS: Your Query to 8554

E-mail: [info@jubileelife.com](mailto:info@jubileelife.com),  
[complaints@jubileelife.com](mailto:complaints@jubileelife.com)

Website: [www.jubileefamilytakaful.com](http://www.jubileefamilytakaful.com)

# **CERTIFICATE OF SHARIAH COMPLIANCE**

## **FOR JUBILEE LIFE INSURANCE COMPANY LTD – WINDOW TAKAFUL OPERATIONS**

In the capacity of Shariah Advisor of Jubilee Life Insurance Company Ltd – Window Takaful Operations, I hereby certify that I have reviewed the structure of “**Jubilee Family Takaful-Jubilee Aalishaan Sehat Takaful Plan**” which is based on the Wakalah-Waqf Takaful Model. I have examined all relevant processes and documents including the Participant’s Membership Document. In addition, I have also reviewed in detail and perform continuous monitoring of the investments with regard to all Family Takaful Funds.

Based on the Shariah rulings and to the best of my knowledge and belief, the “**Jubilee Family Takaful-Jubilee Aalishaan Sehat Takaful Plan**” of Jubilee Life Insurance Company Ltd – Window Takaful Operations, investments of all Takaful Funds, relevant documents and processes are fully compliant from all aspects of Shariah.

In my opinion, it is permissible from Shariah point of view to obtain Membership in this product, participate in the Waqf Fund and benefit from it.



Mufti Zeeshan Abdul Aziz  
Shariah Advisor



**Jubilee Life Insurance Company Limited-Window Takaful Operations**



جوبلی عایشان صحت تکافل پلان

## جوبلی عایشان صحت تکافل پلان

عایشان اپنے نام کی طرح ایک ایسا پلان ہے جو جوبلی لائف انشورنس کمپنی لمیٹڈ ونڈو تکافل آپریشنز نے اپنے ڈسٹر بیوشن پلانٹر دیٹی اسلامک بینک کے ساتھ یہ شروع کیا ہے اور ممکن حد تکترین انداز سے سیونگزیارپروٹیکشن کے ذریعے آپکی مدد کرتا ہے۔ عایشان کسی بھی دوسرے تکافل پلان کے مقابلہ میں آپکے خوابوں کی بہتر تعبیر دیتا ہے۔

جوبلی عایشان صحت تکافل پلان میں ایک یونٹ لنکڈ اینڈومنٹ پلان اور اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ پہلے ہی سال مارکیٹ میں موجود کسی بھی پلان کے مقابلے میں بہت تیزی سے اپنی سرمایہ کاری کے ذریعے سیونگزی کے اہداف تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ خاص طور پر ان کامیاب لوگوں کے لئے تیار کیا گیا ہے جو اپنی زندگی میں کچھ اضافی نعمتوں کے خواہشمند ہیں۔ یہ ایک ایسا پلان ہے جو آپکی سیونگزی میں تیزی سے اضافہ کرتا ہے اور ضرورت کے موقع پر آپکی خواہش کے مطابق آپکے پیاروں کے لئے تحفظ فراہم کرتا ہے۔

اگر آپ خاص طور پر کسی فیملی تکافل پلان کے خواہشمند ہیں جو کہ آپکو شریعت کے اصولوں کے مطابق بہترین منافع فراہم کر سکتا ہو تو جوبلی عایشان صحت تکافل پلان ایک بہترین انتخاب ثابت ہوگا۔

### پراڈکٹ کی خصوصیات:

- اپنے کنٹری بیوشن میں اضافے کے ذریعے افراط زر پر قابو پانے کا اختیار
- اپنے تحفظ کو بڑھانے کے لیے کسی بھی اضافی اختیاری فوائد کا انتخاب
- اپنے فنڈز کی جمع شدہ کیش ویلیو جزوی یا کلی طور پر نکالنے کی سہولت
- اضافی بچت کے ساتھ اپنی سرمایہ کاری کو Top-up کرنا
- پارٹنیشنٹ ممبر شپ دستاویزات کی وصولی کے 14 دن کے اندر ممبر شپ کو منسوخ کروا سکتا ہے۔

### تکافل کیا ہے؟

تکافل عربی زبان کا ایک لفظ ہے، جس کا مطلب باہم ایک دوسرے کا ضامن بننا ہے یہ ایک مشترکہ پولنگ سسٹم ہے جو کہ بھائی چارہ اور باہمی تعاون کی بنیاد پر مبنی ہے جہاں پارٹنیشنٹس ضرورت کے موقع پر مشترکہ فنڈ سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔

### تکافل کے بنیادی اصول:

- 1- پارٹنیشنٹ "تجربہ" کی بنیاد پر ایک دوسرے کو ممکنہ خطرات سے محفوظ رکھنے کیلئے وقف پول میں ایک مقررہ رقم ادا کرتے ہیں جسے "کنٹری بیوشن" کہا جاتا ہے اور اس فنڈ کو "وقف فنڈ" سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
- 2- ونڈو تکافل آپریٹر بحیثیت وکیل وقف فنڈ کا انتظام و انصرام کرتا ہے جسے انفرادی فیملی تکافل شرکاء کے فنڈ (IFTPF) سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
- 3- کلیمز کی ادائیگی انفرادی فیملی تکافل شرکاء کے فنڈ (IFTPF) سے کی جاتی ہے۔
- 4- سرپلس ہونے کی صورت میں IFTPF میں موجود رقم کی تقسیم شریعہ ایڈوائزر اور کمپنی کے منتخب کردہ ایگزیکٹوز کی منظوری سے کی جاتی ہے۔

### فیملی تکافل پلان کیا ہے؟

فیملی تکافل پلان باہمی تعاون، استحکام اور کمیونٹی کے فوائد کے لئے شرعی اصولوں کی مدد سے ترتیب دیا جاتا ہے۔ تکافل کے زیر انتظام افراد باہمی تعاون کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے کے مستقبل میں ہونے والے خطرات کو تقسیم کرتے ہیں۔

## جوبلی عایشان صحت تکافل پلان

جوبلی عایشان صحت تکافل پلان آپکے اور آپکی فیملی کیلئے بہترین انتخاب کا موقع فراہم کرتا ہے، جس میں آپ شرعی اصولوں کے مطابق سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، جو کہ نہ صرف آپکو ذہنی سکون دیتا ہے بلکہ مالی اعتبار سے بھی استحکام بخشتا ہے، آپکا کنٹری بیوشن پہلے ہی دن سے آپکی مرضی کے

مطابق حکمت عملی کیساتھ سرمایہ کاری میں لگایا جاسکتا ہے، اسکا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کیش ویلویک آغا پہلے ہی دن سے ہو سکتا ہے، اگر آپ کو مستقبل میں کوئی مالی ضرورت ہو تو جوہلی عایشان صحت تکافل پلان اس مقصد کے حصول میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔

یہ پلان مستقبل میں آپ کی فیملی کو مالی خطرات سے تحفظ کی یقین دہانی کراتا ہے، خدا نخواستہ آپ کے دنیا میں نہ رہنے کی صورت میں پلان کے فوائد آپ کی فیملی کو انفرادی فیملی تکافل شرکا کے فنڈ (IFTPF) سے دیئے جائیں گے اور یہ یقین دہانی بھی کراتا ہے کہ جب آپ کی فیملی کو آرام دہ زندگی کیلئے شدید مالی ضرورت ہوگی تو یہ پلان مالی تعاون کے ساتھ ساتھ حفظان صحت اور اعلیٰ تعلیم کی سہولت بھی فراہم کرے گا۔



### اس پلان کے کیا فوائد ہیں؟

پارٹنر جوبلی عایشان صحت تکافل پلان میں سیونگ اور تحفظ کی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر اور بھی فوائد حاصل کر سکتا ہے۔

### تکمیل مدت کے فوائد:

رکنیت کی مدت مکمل ہونے پر پارٹنر کو پارٹنر انویسٹمنٹ اکاؤنٹ (PIA) میں موجود اثاثہ کی قدر نقد ادا کی جائیگی، مزید بہتر انداز سے سمجھنے کیلئے ہمارے متعلقہ افراد سے رابطہ کیا جائے۔

### انتقال کی صورت میں:

یہ پلان آپ سے وابستہ ضروریات کا تحفظ کرتا ہے جس میں آپ کا تحفظاتی کور سالانہ بنیادی کٹری بیوٹن کا 5 سے 25 کور ملٹیپل ہو سکتا ہے، اگر پارٹنر رکنیت کے مکمل ہونے سے پہلے انتقال کر جائے تو نوینی (منتخب کردہ شخص) کو انڈر رائٹنگ کی بتائی ہوئی تفصیلات کی مطابقت موجودہ اثاثہ کی قدر نقد تحفظاتی فنڈ کی رقم (میں سے جو زیادہ ہو) ادا کر دی جائیگی۔

## ضمنی اختیاری تکافل فوائد: (Supplementary Optional Takaful Benefits)

مندرجہ ذیل ضمنی تکافل فوائد اس پلان کا حصہ نہیں ہیں پارٹسپنٹ یہ فوائد اپنے تحفظ کو مزید مستحکم کرنے کے لئے حاصل کر سکتا ہے۔

### ضمنی تکافل فائدہ برائے مکمل اور مستقل معذوری:

(Permanent and total Disability Supplementary Takaful Benefit)

اس ضمنی فائدہ کے تحت پارٹسپنٹ کو مکمل اور دائمی معذوری کی صورت میں تمام فوائد ادا کر دیئے جائیں گے۔

### ضمنی تکافل فائدہ برائے معافی اقساط: (Waiver of Contribution Supplementary Takaful Benefit)

اس ضمنی فائدہ کے تحت پارٹسپنٹ کی بقیہ تمام اقساط جو بلی فیملی تکافل کی طرف سے ادا کی جائیں گی بشرطیکہ پارٹسپنٹ حادثہ یا بیماری کی صورت میں اپنی تعلیم کے مطابق کسی پیشہ یا فن اختیار کرنے میں چھ ماہ تک قادر نہ ہو سکے۔

### ضمنی تکافل فائدہ برائے حادثاتی موت: (Accidental Death Supplementary Takaful Benefit)

اس ضمنی فائدہ کے تحت پارٹسپنٹ کے منتخب کردہ وارث یا کئی ورثاء کو حادثاتی موت کی صورت میں نقد رقم ادا کی جائیگی۔

### ضمنی تکافل فائدہ برائے حادثاتی موت یا جزوی مستقل معذوری:

(Accidental Death or Dismemberment Supplementary Takaful Benefit)

اس ضمنی فائدہ کے تحت حادثاتی موت یا کسی عضو کے ضائع ہو جانے کی صورت میں معذوری کی شدت کے مطابق مکمل یا جزوی فوائد کی ادائیگی کی جائیگی۔

### ضمنی تکافل فائدہ برائے خطرناک امراض: (Critical Illness Supplementary Takaful Benefit)

اس ضمنی فائدہ کے تحت پارٹسپنٹ کو 18 خطرناک بیماریوں میں سے کسی ایک کے لاحق ہونے کی صورت میں یکمشت رقم ادا کی جائیگی۔

### ضمنی تکافل فائدہ برائے خاندانی سہ ماہی آمدنی: (Family Income Supplementary Takaful Benefit)

یہ پلان پارٹسپنٹ کو سہ ماہی آمدنی کا موقع فراہم کرتا ہے جو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہے کہ پارٹسپنٹ کی فیملی پارٹسپنٹ کی ناگہانی موت کی صورت میں دی جانے والی آمدنی کی مدد سے اپنے معیار زندگی کو برقرار رکھ سکے۔

### جوبلی میڈی پال تکافل فائدہ: (Jubilee MediPal Supplementary Takaful Benefit)

اس اختیاری فائدہ کے تحت کسی حادثہ یا بیماری کی صورت میں اسپتال میں داخلے اور علاج کے لئے 250,000 روپے تک کی مالی معاونت فراہم کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پارٹسپنٹ میڈی پال میں اپنے/اپنی شریک حیات کو بھی شامل کر سکتا ہے۔ پارٹسپنٹ کسی بھی منظور شدہ ہسپتال سے بلا معاوضہ نجی کمرے کی سہولت کے ساتھ اعلیٰ معیار کی طبی سہولیات حاصل کر سکتا ہے۔

مزید معلومات کے لئے جوبلی میڈی پال اختیاری تکافل فائدہ کا علیحدہ کتابچہ ملاحظہ فرمائیں۔

## اس پلان میں فنڈ کا انتخاب کس طرح کیا جاتا ہے؟

اس پلان میں پارٹنر کی جانب سے دیئے جانے والے کسی بھی کنٹری بیوشن کی، مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک یا دونوں شریعہ کمپلائنس فنڈ زمین سرمایہ کاری کی جائے گی۔

<p>فیملی تکافل انکم فنڈ شریعہ کمپلائنس گورنمنٹ سیکیورٹیز اور اسلامی بینک کے آلات میں سرمایہ کاری کر کے درمیانی سے طویل مدتی تک کم رسک کے ساتھ پائیدار منافع فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ اس فنڈ کی درجہ بندی کم درجے کے رسک پروفائل والے فنڈ کے طور پر کی گئی ہے۔</p>	<p>فیملی تکافل انکم فنڈ</p>
<p>فیملی تکافل سیلینڈ فنڈ شریعہ سے مطابقت رکھنے والے آلات کی وسیع رینج کے متوازن پورٹ فولیو کے ساتھ سرمایہ کاری پر مسابقتی منافع فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ اس فنڈ کی درجہ بندی درمیانے درجے کے رسک پروفائل والے فنڈ کے طور پر کی گئی ہے۔</p>	<p>فیملی تکافل سیلینڈ فنڈ</p>

آپ کے کنٹری بیوشن کو بطور ڈیفالٹ فیملی تکافل انکم فنڈ جوہلی لائف ونڈو تکافل آپریشنز میں مختص کیا جائے گا جو درمیانی مدت سے طویل مدتی تک، مختلف شرعی مطابقت رکھنے والے سیکیورٹیز کے متنوع پورٹ فولیو میں بشمول منی مارکیٹ اور ڈیٹ انسٹرومنٹ سرمایہ کاری کر کے کم سے کم خطرہ کے ساتھ پائیدار منافع فراہم کرتا ہے۔ اس کی ایکویٹی سیکیورٹیز میں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہے۔

تاہم، آپ کے پاس اعلامیہ فارم پر دستخط کر کے ڈیفالٹ انویسٹمنٹ فنڈ کے علاوہ اپنی پسند کے کسی بھی فنڈ میں سرمایہ کاری کرنے کا اختیار ہے۔

ان فنڈز کا انتظام ماہر انوسٹمنٹ مینیجرز کے ذریعہ شرعی ایدوائزر کی رہنمائی میں کیا جاتا ہے تاکہ سخت شرعی تعمیل کے تحت قابل انتظام اور برداشت خطرے کے ساتھ مطلوبہ منافع کو یقینی بنایا جاسکے۔

منصوبے کی مدت کے دوران آپ کے کنٹری بیوشن سے سرمایہ کاری کے منافع حاصل ہوں گے۔ منتخب شدہ مدت کے اختتام پر، آپ کو اپنی جمع شدہ نقد قیمت یکمشت میں مل جائے گی۔

نوٹ: ان فنڈز کی ماضی کی کارکردگی لازمی طور پر ان فنڈز میں سے کسی کی مستقبل کی کارکردگی کی ضمانت نہیں ہے۔

جوہلی لائف فیملی تکافل کے فنڈز کی یونٹ کی قیمتیں باقاعدگی سے معروف روزناموں میں اور جوہلی لائف فیملی تکافل کی ویب سائٹ [www.jubileefamilytakful.com](http://www.jubileefamilytakful.com) پر شائع ہوتی ہیں۔

## شریعی کمپلائنس فنڈز کیا ہیں؟

وہ فنڈز جہاں شریعت کے اصولوں کے مطابق سرمایہ کاری کی جاتی ہے جس میں اسلامک ایکویٹیز، اسلامک ٹرم سٹرٹیفیکیشن، اسلامک میوچل فنڈز اور اسلامی بینک انسٹیٹیوشنز وغیرہ شامل ہیں جو کہ با (سود)، قمار (جوا)، غرر (دھوکہ) جیسی خرابیوں سے پاک ہیں۔



## ہمارے شریعہ ایڈوائزر

ہماری تمام پروڈکٹس ایک ماہر باصلاحیت شرعی ایڈوائزر کی زیر نگرانی شریعت کے اصولوں کے مطابق منظور شدہ ہوتی ہیں۔ اسکے ساتھ ساتھ شریعہ کمپلائنس ڈیپارٹمنٹ سرمایہ کاری اور آپریشنل مسائل کو شریعت کے اصولوں کے مطابق راہنمائی اور حل فراہم کرتا ہے۔ کمپنی کے شریعہ کمپلائنس کو مزید مستحکم کرنے کیلئے ایکسٹرنل شریعہ آڈٹ بھی کیا جاتا ہے۔

## اس پلان میں فنڈ کو کس طرح تقسیم کیا جاتا ہے؟

ممبر شپ کے سال	مختص ہونے والی %
1 سال	60%
2 سال	95%
3 سال اور آئندہ سال	100%

ٹاپ اپ کئے جانے والے کنٹری بیوشن کی ایلوکیشن 100% ہوگی۔

جوبلی عالی شانہ صحت تکافل پلان کے تحت، پانچویں سال سے اور اس کے بعد جوبلی لائف انشورنس - ونڈو تکافل آپریشنز اپنے صارفین کو یونٹ اکاؤنٹ میں بونس الاٹمنٹ دے گا۔ یہ مندرجہ ذیل جدول کے مطابق فراہم کیا جائے گا۔

بونس کی فیصد رقم*	ممبر شپ کا سال
3%	5 سال
7%	7 سال
15%	10 سال
20%	15 سال
25%	20 سال
30%	25 سال

آپ ممبر شپ سال 5، 7، 15، 20، 25 میں 100 فیصد سے زیادہ بونس مختص کریں گے، جیسا کہ اوپر ٹیبل میں دکھایا گیا ہے۔

ٹاپ اپ کئے جانے والے کنٹری بیوشن کی ایلوکیشن 100% ہوگی۔

## کم سے کم بنیادی کنٹری بیوشن کتنا ہو سکتا ہے؟

اس پلان میں کم سے کم بنیادی کنٹری بیوشن 250,000 روپے سالانہ، 125,000 روپے شش ماہی، 62,500 روپے سہ ماہی اور 20,834 روپے ماہانہ ہے۔

## ٹاپ اپ کنٹری بیوشن کیا ہے؟

یہ ایک طویل المیعاد سیونگ اور تحفظ فراہم کرنے والا پلان ہے جس میں بنیادی کنٹری بیوشن کے علاوہ ٹاپ اپ کی سہولت موجود ہے یہ وہ اضافی رقم ہے جو پلان میں قدر نقد میں اضافہ کرنے میں مؤثر کردار ادا کرتی ہے جو 100% تک آپ کے سرمایہ کاری اکاؤنٹ (PIA) میں شامل ہو جاتی ہے۔

## کنٹری بیوشن کی ادائیگی میں کیا سہولت ہے

جوبلی عایشان صحت تکافل پلان آپ کو یہ سہولت فراہم کرتا ہے کہ آپ اپنا کنٹری بیوشن با آسانی سالانہ، شش ماہی، سہ ماہی اور ماہانہ طور پر ادا کر سکتے ہیں۔

## کنٹری بیوشن میں انفلیشن کے مطابق اضافہ

آپ کے کم کو رڈ اور کنٹری بیوشن میں ہر سال ونڈو تکافل آپریٹری جانب سے بیان کردہ بغیر کسی میڈیکل چارجز کے از خود ہی اضافہ ہوتا رہے گا آپ کو بالکل یہ حق بھی حاصل ہے کہ آپ اس اضافہ کی رقم کو تسلیم نہ کریں اور اپنے پلان کو اپنی شرائط و ضوابط پر قائم رکھیں یا اپنی ضروریات کے مطابق کم اضافہ کریں۔

## یہ پلان کون حاصل کر سکتا ہے؟

تفصیل	کم از کم عمر	زیادہ سے زیادہ عمر
ابتدائی عمر	18 سال	65 سال
پلان کی مدت	10 سال	25 سال*
* تکمیل مدت کی حد 75 سال تک ہے۔		

## اس فنڈ کا انتظام کیسے کیا جائے گا؟

شرعیہ ایڈوائزری زیر نگرانی باصلاحیت و تجربہ کار سرمایہ کاری کی ٹیم اس فنڈ کا انتظام و انصرام کرتی ہے تاکہ آپ کو شرعی اصولوں کے مطابق زیادہ سے زیادہ منافع فراہم ہو سکے۔

## کیا میں ضرورت کے وقت اپنے پلان سے جزوی یا مکمل رقم حاصل کر سکتا ہوں؟

جوبلی عایشان صحت تکافل پلان کے تحت آپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ آپ اپنی سرمایہ کاری کے اکاؤنٹ سے جزوی رقم حاصل کریں یا آپ اپنا پلان مکمل ختم کریں۔

## جزوی رقم حاصل کرنا

اگر آپ اچانک درپیش ضرورت کی وجہ سے ممبر شپ کو ختم کئے بغیر رقم نکالوانا چاہیں تو آپ کم از کم نکالی جانے والی حد تک رقم نکالوا سکتے ہیں بشرطیکہ آپ کے اکاؤنٹ میں باقی ماندہ کیش ویلئے 250,000 روپے یا اس سے زائد ہو۔

## مکمل رقم حاصل کرنا

آپ کسی بھی وقت اپنے پلان کو سرینڈر کر سکتے ہیں۔ مکمل دستبرداری کے وقت آپ کو فنڈ میں موجود نقد رقم ادا کر دی جائے گی اگر ممبر شپ کے قریب ترین سالوں میں مکمل دستبرداری کی گئی تو کیش ویلئے کم ہو سکتی ہے۔

## جوبلی لائف۔ وندو تکافل آپریشنز قیمتوں کے تعین کے لئے کس طریقہ کار کی پیروی کرتی ہے؟

جوبلی لائف۔ وندو تکافل آپریشنز فارورڈ یونٹ کی قیمتوں کے تعین طریقہ کار کی پیروی کرتی ہے۔ یہ فنڈ میں سرمایہ کاری کی کل قیمت کو قیمتوں کے تعین کی تاریخ کے مطابق فنڈ میں فعال اکائیوں کی تعداد سے تقسیم کر کے تیار کیا جاتا ہے۔

## اس پلان میں کیا چارجز شامل ہیں؟

جوبلی عایشان صحت تکافل پلان میں مندرجہ ذیل فیس شامل ہیں۔

وکالتہ الاستثمار* (درج ذیل پر مشتمل ہے)	
ابتدائی چارج	5% بڈ آف اسپریڈ
ایلیکشن فیس	باقاعدگی سے دیئے جانے والے کنٹریبوشن میں سے بچنے والی تمام رقم جو پارٹسپنٹ انویسٹمنٹ اکاؤنٹ میں ایلیکٹ نہیں ہوئی ہو۔
انویسٹمنٹ منیجمنٹ فیس	سالانہ 1.5% نیٹ ایسٹ ویلئے PIA کا حصہ ہوگا۔
ایڈمن فیس*	ہر ماہ 245 روپے
تکافل کنٹری بیوشن	SECP سے منظور شدہ اصولوں کے مطابق PIA اکاؤنٹ سے کنٹری بیوشن کی کٹوتی ہوگی اور IFTPF میں منتقل ہوگی، اور تحفظاتی فوائد کی ادائیگی IFTPF سے کی جائیگی۔ - ہر تکافل کنٹری بیوشن کا 40% پارٹسپنٹ ممبر شپ (PMD) میں موجود تفصیلات کے مطابق فوائد کی ادائیگی کیلئے مختص ہوگا۔ - ہر تکافل کنٹری بیوشن کا 40% ضمنی تکافل فوائد کے ستاویزات میں موجود تفصیلات کے مطابق ضمنی تکافل فوائد کی ادائیگی کیلئے مختص ہوگا۔
IFTPF سے وصول کی جانے والی وکالتہ فیس*	(IFTPF) سے وکالتہ فیس کے طور پر کٹوتی کی جاتی ہے
فنڈ سوچنگ فیس	PKR 500 فی سوچ اگر ممبر شپ سال میں چار (4) سے زیادہ حاصل کیے جائیں۔

مضارب شیئر* سرمایہ کاری کی آمدنی سے شراکت	ونڈ وٹکافل آپریٹر (مضارب)، IFTPF (رب المال) کے (راس المال) کی سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والے منافع کا 40% مضارب کی بنیاد پر حاصل کرے گا۔
کنزری بیوشن ایلوکیشن چارج	کنزری بیوشن مختص کا حساب لگایا جاتا ہے۔ کیونکہ کنزری بیوشن کا سو فیصد سال کے لیے مختص کردہ کنزری بیوشن کا کم فیصد وصول کرتا ہے۔

\*ونڈ وٹکافل آپریٹر کی جانب سے اس میں تبدیلی بھی کی جاسکتی ہے۔

## منافع کی تقسیم

ٹکافل اپنے پارٹنرٹ کو صرف تحفظ ہی نہیں بلکہ IFTPF میں بچ جانے والی رقم (سرپلس) بھی پیش کرتا ہے جو عقد ترمیم کی بنیاد پر دی گئی رقم سے کلیمز کی ادائیگی اور دیگر اخراجات منہا کرنے کے بعد درج ذیل ترتیب سے ادا کئے جائیں گے۔

1- فنڈ کا ایک حصہ وقف پول کو مستقبل میں مستحکم کرنے کیلئے مختص کیا جائیگا تاکہ آئندہ آنے والے بڑے کلیمز کی ادائیگی میں سہولت فراہم کر سکے۔

2- باقی موجودہ رقم (سرپلس) پارٹنرٹس میں منصفانہ طور پر تقسیم کئے جائیں گے۔

ونڈ وٹکافل آپریٹر کسی بھی صورت میں سرپلس اپنی ملکیت میں نہیں لے سکتا۔ سرپلس ہمیشہ پول اور عوام کے مفاد میں استعمال کئے جائیں گے۔

## فری لنگ پیریڈ

جوبلی عایشان صحت ٹکافل پلان آپکو آفر کرتا ہے 14 دن کا فری لنگ پیریڈ جس میں آپ پلان کے تمام اصول و ضوابط کا جائزہ لے سکتے ہیں اور ممبر شپ ختم کر سکتے ہیں، جبکہ آپ کا کنزری بیوشن، ممبر شپ کے جاری ہونے کی تاریخ کے مطابق 14 دن کے اندر دی جانے والی درخواست پر آپکو واپس کر دیا جائیگا۔ جس میں آپ کی میڈیکل فیس اور دیگر اخراجات کی کٹوتی شامل ہوگی اور اگر آپ کے کنزری بیوشن سے IFTPF میں کوئی رقم مختص ہوئی تو اس کی کٹوتی بھی کی جاسکتی ہے۔

## ضروری معلومات

- یہ پروڈکٹ وٹکافل آپریٹر کی جانب سے پیش کی جارہی ہے۔ دئی اسلامک بینک اس سے متعلقہ کسی چیز کا ضامن نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ پروڈکٹ بینک کی جانب سے پیش کی جارہی ہے۔
- یہ ایک فیملی ٹکافل پروڈکٹ ہے جس کے دوالگ الگ عناصر ہیں یعنی ٹکافل پروڈکٹیشن اور انویسٹمنٹ۔ سرمایہ کاری کا جزو یونٹ سے منسلک فنڈ (فنڈز) کے تحت بنیادی اثاثوں کی کارکردگی سے منسلک ہے۔
- ونڈ وٹکافل آپریٹر اپنے موجودہ فنڈ سے متعلق مستقبل کیلئے کوئی پیش گوئی فراہم نہیں کرے گا۔ فنڈ سے متعلق بتائی گئی کسی پیش گوئی کا وٹکافل آپریٹر ذمہ دار نہیں ہوگا اور نہ ہی بینک ضامن ہوگا۔

- ذاتی اسٹریٹجی تکافل کنسلٹنٹ کی جانب سے فراہم کی جائیگی۔ ازراہ کرم اسٹریٹجی میں دی گئی تمام تفصیلات اور مختلف شرائط اچھی طرح سمجھ لیں۔
- براہ کرم پارٹنیشنٹ ممبر شپ دستاویز (PMD) پر دی گئی تفصیلات اور مختلف شرائط اچھی طرح سمجھ لیں۔
- ممبر شپ حاصل کرتے وقت پارٹنیشنٹ کی عمر 55 سال ہو یا قریب ترین تاریخ پیدائش اسکے قریب ہو تو (میڈی پیل کے علاوہ) ضمنی تکافل فوائد دیئے جاسکتے ہیں۔
- دیہی اسلاک بینک ونڈو تکافل آپریٹری پروڈکٹ کو مہیا کرنے والا ہے۔ دیہی اسلاک بینک فوائد حاصل کرنے والے یا کسی بھی فرد کے لئے ضامن نہیں ہوگا۔
- جوہلی لائف ونڈو تکافل آپریشنز IFTPF کی جانب سے اس تکافل کور کانڈر رائٹر اور فراہم کنندہ ہے اور ممبر شپ کی خدمت، لاجسٹکس، پروسیسنگ اور کورڈ کسٹمرز اور بنیفیٹریز کے کلیم کے تصفیہ کا ذمہ دار ہے۔
- سرمایہ کاری میں نقصان کے خدشات پارٹنیشنٹ برداشت کرے گا اور تکمیل مدت کے وقت یا ممبر شپ ختم کرنے کے وقت اصل رقم متوقع رقم کے مقابلے میں کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ اگر پارٹنیشنٹ پہلے سے طے شدہ فنڈ کے علاوہ کسی اور فنڈ میں سرمایہ کاری کرنے کا انتخاب کرتا ہے تو اس کے لیے اعلامیہ پر دستخط کرنا ضروری ہے۔
- ازراہ کرم بنیادی فنڈ کے ڈارگٹ ایسٹمس کی معلومات کے لئے کمپنی کی ویب سائٹ رجوع کریں۔

(<https://jubileefamilytakaful.com/jubilee-family-takaful-funds/fund-manager-reports/>)

## رابطے کے لئے تفصیلات:

جوہلی لائف انشورنس کمپنی لمیٹڈ

ونڈو تکافل آپریشنز

A-74/1، لالہ زار، مولوی تمیز الدین خان روڈ، کراچی، 74000، پاکستان۔

فون نمبر: (021) 32120201, 35205094

فیکس نمبر: (021) 35610959

یو اے این: (021) 111-111-554

ایس ایم ایس: اپنا سوال لکھ کر 8554 پر ارسال کریں

ای میل: info@jubileelife.com, complaints@jubileelife.com

ویب سائٹ: www.jubileefamilytakaful.com

## جوبلی فیمیلی ٹکافل۔ جوبلی عالیشان صحت ٹکافل پلان کی شرعی حیثیت

جوبلی لائف انشورنس کمپنی لمیٹڈ۔ ونڈو ٹکافل آپریشنز کے شرعی مشیر کی حیثیت سے، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ جوبلی فیمیلی ٹکافل کا جوبلی عالیشان صحت ٹکافل پلان وقف اور وکالت کے اصولوں پر مبنی ہے۔ میں نے اس سے متعلق تمام امور جس میں دستاویزی کاغذات بشمول ممبر شپ دستاویز کا بغور جائزہ لیا ہے مزید یہ کہ فیمیلی ٹکافل کی سرمایہ کاری اور اس سے متعلق تمام فنڈز کا جائزہ لیا ہے اور بحمد اللہ ان تمام امور کو شریعت کے اصولوں کے مطابق پایا ہے۔

لہذا میری رائے میں جوبلی لائف انشورنس کمپنی لمیٹڈ۔ ونڈو ٹکافل آپریشنز کے جوبلی فیمیلی ٹکافل جوبلی عالیشان صحت ٹکافل پلان کی رکنیت لینا، وقف فنڈ میں تعاون کرنا اور اس سے فائدہ حاصل کرنا شرعاً جائز ہے۔



*Handwritten signature in blue ink.*

مفتی ذیشان عبدالعزیز

شرعی مشیر: جوبلی لائف انشورنس کمپنی۔ ونڈو ٹکافل آپریشنز